```
) اعنا کو دھونے کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے انہیں دھونا واجب ہے ،اس طرح متعلقہ پورے عضو کو دھونا بھی لازم ہے کہ عضو کا کوئی صدایسا نہ ہوکہ جہاں پانی نہ پہنے ۔
صفو کوالند تعالی نے دھونے کا حکم دیا ہے اس میں زخم ہے، اور پانی سے دھونے کی صورت میں زخم بڑاستا ہے یا شغایابی میں تاخیر ہوگی توزخم کھلاہونے کی صورت میں اس پر مسح کرنا ممکن ہمی ہوتو مسح کرلے ، لیکن اگرزخم تو کھلاہوا ہے لیکن اس پر مسح نمیں کیا جاستا تو متعلقہ عسنوحس حد تک دھوستا ہے ا
                                                                                                                                                 ۔ اگر زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہے ، یا پلاسٹ نگا ہوا ہے ، یا کوئی ایسی دوالگی ہوئی ہے جوزخم تک پانی نہ پہنچنے دے تووہ پٹی پریا پلاسٹ پر مسح کر لے۔
                                                                                                                                                                                                                                          ن"(1/172-173) ميں كھتے ہيں:
                                                                                                                                                        اسی طرح اگرزنم پر دوالگی ہوئی ہے اور دوا بٹانے سے زخم خراب ہوگا تواس پر بھی مسح کرے۔ امام احد نے اس کی صراحت کی ہے۔
                                                                                    اژم رحمہ اللہ نے اپنی سندسے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنهما کی سندسے بیان کیا ہے کہ ان کے انگوٹھے پر پھوڑا نمکل آیا توانسوں نے اس پر پتا باندھ لیا اور سیدنا ابن عمراس کے اوپر سے ومنو کیا کرتے تھے۔
پر لگے ہونے زخم کے بارے میں ندیثہ ہوکد اگرپانی لگا توزخم خراب ہوجائے گا تواس پر مسح کرنا جائزہے۔ امام احد نے صراحت سے یہ بات کہی ہے۔ قاضی رحمہ اللہ نے زخم کے بارے میں کہاہے کہ :اگراس پٹی کوا تار نے سے نقصان نہ ہوتو پٹی کوا تاری ، اور صبح صد دھولے ، اور زخم کی جگ
                                                                                                                                                                                                                                                            (273/14)";
                                                                                                                                                                                                                                                     ن:(357/5) میں ہے:
                                                                                                                                                                                                                                                    أ بن عشمين رحمه اللدكية بين :
                                                                                                                                                                                                           "اگروصنو کے اعضامیں سے کسی عصنو پر زخم ہو تواس کے متعدد درجے میں :
                                                                                                                                                                                 پىلا درجە : زخم كىلا مواوراسىد دھونے سے نقصان بھى نەم تولولىسى صورت میں اسے دھونا واجب ہے ۔
                                                                                                                                            سرا درجہ: زخم کھلا ہواور دھونے سے اسے نقسان ہو مس کرنے سے نہ ہو تو پھر اس صورت میں زخم کو دھویا نہیں جائے گا بلکد اس پر مسم کیا جائے گا۔
                                                                                                                                                                                   مرا درجہ: زخم کھلا ہوا ہواور دھونے یا اس پر مسح کرنے سے نقصان ہوگا تواس صورت میں تیم کرے گا۔
                                                                                            زخم کسی ضروری پٹی یا پلاسٹ وغیرہ سے ڈھکا ہوا ہواوراس کی ضرورت بھی ہو تواہسی صورت ہیں اس پٹی یا پلاسٹ وغیرہ پر مسح کرے اوراسے دھونے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی تیم کرے ۔ " ختم شد
                                                                                                                                                                                                                             "مجموع فتاوي ورسائل ابن عثيمين " (121/11)
                                                                                                                                                                                                                                                  مدرجه بالا تفصيلات كى روشني ميں :
اگر آپ کی انگلی کا زخم پانی لگنے سے خراب نہیں ہوگا تواسے دھونالازم ہے، اوراگر دھونے سے اسے نقسان ہوگا لیکن مح کرنے سے نقسان نہیں ہوگا تو پھر آپ پر مح کرنا واجب ہے، اوراگر دھونے اور مح کرنے وٹونوں سے ہی نقسان ہوگا اور آپ نے زخم پر پٹی ہی باندھی ہوئی ہے تو پھر آپ کے لیے
وں پر مسح کے حوالے سے یہ ہے کہ :اگر آپ نے پوراقدم دھولیا تھا، یا جتنا دھوسکتے تنے اتنا دھویا اور بقیہ زخمی ہے پر مندرجہ بالا تفسیلات کی روشن میں مسح کیا ، اور آپ نے اسی و منوکی حالت میں موزے بہتے تو آپ کے لیے دونوں موزوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ حالتِ اقامت میں ایک دن اور رات مسح کرتا
                                                                                                                                                                                                                                          ن" (1/176-177) ميں كھتے ہيں:
                                                                                                                                                                                                                                                         ن مفلح رحمه الله كينة باس:
                                                                                                                                                                                                                                                     ند
"الفروع" (1/198)
```

اسلام سوال وجواب

148062